



### 21 مئی کے طوفان کی صفائی کے بارے میں اپ ڈیٹ

A سٹی آف برامپٹن میں ٹوٹے ہوئے درختوں کو ہٹانے، نئے درخت لگانے اور صحن کے فضلے کو جمع کرنے کے بارے میں آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

برامپٹن، آن (25 مئی 2022) – اس مرتبہ 21 مئی کو آنے والے طوفان کے بعد شہر بھر میں صفائی اور بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔

عملہ فی الحال ان تمام جگہوں پر جا رہا ہے جہاں پر شہر کی ملکیت والے درختوں کو نقصان پہنچا ہے تاکہ علاقے کو محفوظ بنایا جا سکے۔

درختوں کا ملبہ اگلے کئی ہفتوں تک بولیوارڈز اور پارکوں اور کھلی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے کیونکہ موجودہ طور پر فوری خطرات سے نمٹا جا رہا ہے۔

درختوں کو ہٹانے یا درختوں کے نقصان کے بارے میں اطلاع دینا

سٹی کے ملکیتی درخت

سٹی آف برامپٹن اپنے درختوں کی دیکھ بھال کا کام خود کرتا ہے، بشمول شہر کی ملکیتی جگہوں مثلاً گھروں کے سامنے موجود پارکس اور بولیوارڈز کے اندر واقع درختوں کی شاخ تراشی یا گرے ہوئے درختوں کو ہٹانا۔

رہائشیوں کو شہر کی ملکیت والے درختوں کو ہٹانے یا انہیں نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے۔

درختوں کو ہٹانے کی درخواستوں کا پہلے معائنہ کیا جاتا ہے:

- ابتدائی درخواست کے تقریباً 90 دن بعد معائنہ کیا جاتا ہے
- جنگلات کا عملہ ٹری ڈور ہینگر چھوڑ دے گا، جس کا مقصد یہ اطلاع دینا ہے کہ معائنہ مکمل ہو گیا ہے
- معائنہ کے بعد ضروری کام کا شیڈول بنایا جائے گا

اجازت نامے کے بغیر درختوں کو ہٹانے یا نقصان پہنچانے کی رپورٹوں کی تحقیقات پارکس اور جنگلات اور قانون نافذ کرنے والے محکموں کے ذریعے کی جاتی ہیں۔

شہر کے کسی بھی گڑے ہوئے درخت کی شاخوں، درختوں یا ملبے کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے، براہ کرم اپنی رپورٹ آن لائن طور پر [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) پر، 311 موبائل ایپ پر یا 311 پر کال کر کے جمع کرائیں۔

نجی درختوں کو ہٹانا

جائیداد کے مالک کے طور پر آپ اپنی جائیداد پر سے نجی ملکیت والے درختوں کو خود ہٹا سکتے ہیں، لیکن درختوں کے تحفظ کے ضمنی قانون کے مطابق آپ کو اجازت نامہ درکار ہو سکتا ہے

درج ذیل صورتوں میں پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی:

- اگر کوئی درخت زیر استعمال عمارت کے دو میٹر کے اندر موجود ہو



- 30 سینٹی میٹر سے کم قطر کے درخت، جو زمین سے 1.37 میٹر اوپر کے مقام سے ماپے جاتے ہیں
- اگر کسی ہنگامی کام کے لیے درخت کو نقصان پہنچانا ضروری ہو

### شہر کے ملکیتی درختوں کے نئے/متبادل درختوں کی درخواست کرنا

سٹی آف برامپٹن اپنے درختوں کی دیکھ بھال کا کام خود کرتا ہے، بشمول درختوں کی تبدیلی، شہر کی ملکیتی جائیداد مثلاً گھروں کے سامنے پارکس اور بولیوارڈز کے اندر واقع درختوں کی بحالی کے کام۔

عوام کو شہر کی ملکیت والے درختوں کی کٹائی سمیت دیگر کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

جب رہائشی درختوں کے حوالے سے درخواست جمع کرواتے ہیں، تو درج ذیل اقدامات کیا جاتے ہیں:

- ابتدائی درخواست سے تقریباً 90 دنوں میں درختوں کا معائنہ کیا جائے گا
- انسپکٹر آپ کے دروازے پر 'ٹری ڈور ہینگر' چھوڑے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ معائنہ مکمل ہو گیا ہے
- ضروری کام کی تکمیل کے لیے شیڈول کیا جائے گا
- جنگلات کا عملہ کرب پر پینٹ شدہ نشان لگا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں درخت لگانے کے اندازے کی ایک جگہ کی نشاندہی کی جا سکے
- پودے لگانے کی نئی درخواستیں اگلے کیلنڈر سال کے لیے طے کی جاتی ہیں اور موسم کی مطابقت کے لحاظ سے پودے جون تا دسمبر کے درمیان لگائے جاتے ہیں
- درختوں کے انتخاب کا تعین مصدقہ آرپورسٹ (درخت شناس) اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لیے کیا موزوں ہے

نئے/تبدیلی کے درختوں کی درخواست کرنے کے لیے، براہ کرم [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) پر، 311 موبائل ایپ پر یا 311 پر کال کر کے اپنی درخواست آن لائن جمع کروائیں۔

### ریجن آف پیل کی جانب سے صحن کا فضلہ اٹھانا

رہائشی صحن کا فضلہ جمع کرنا، بشمول درختوں کی تراش خراش اور شاخ تراشی کے کام، ریجن آف پیل کے زیر قیادت ہوتے ہے۔

صحن کے فضلے کو ٹھکانے لگاتے وقت، براہ کرم درج ذیل اصولوں کو ذہن میں رکھیں:

- صحن کے فضلے کے کنٹینرز پر لیبل لگا ہوا، کھلا، مضبوط اور دوبارہ قابل استعمال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کارٹ کولیکشن موصول ہوتا ہے، تو آپ اپنے پرانے نیلے یا سرمئی رنگ کے باکس کو اپنے صحن کے فضلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
- گھاس پھوس کو 1.2 میٹر (4 فٹ) لمبے اور 76 سینٹی میٹر (30 انچ) چوڑے بنڈلوں میں محفوظ طریقے سے باندھیں۔ گھاس پھوس کے بنڈلوں کا وزن 20 کلوگرام (44 پونڈ) سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھاس پھوس اور درختوں کی تراش خراش کو 10 سینٹی میٹر (4 انچ) یا اس سے کم قطر کا ہونا چاہیے تاکہ کرب سے جمع کیا جائے۔
- صرف براؤن کرافٹ پیپر بیگز اکٹھے کیے جاتے ہیں جن میں یارڈ کا فضلہ ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے تھیلے قابل قبول نہیں ہیں۔
- صحن کے کچرے سے بھرے ہوئے بیگ یا کنٹینر کا وزن 20 کلوگرام (44 پونڈ) سے کم ہونا چاہیے۔
- اپنے صحن کے کچرے اور کچرے کی کارٹس کے درمیان کم از کم 1 میٹر (3 فٹ) خالی جگہ چھوڑ دیں



# BRAMPTON

## Service and Information Update

رہائشیوں کے صحن کا ایسا فضلہ جو ان رہنما خطوط کے مطابق نہ ہو، تمام پیل کمیونٹی ری سائیکلنگ سنٹرز (CRCs) پر سال بھر کی فیس کے عوض وصول کیا جاتا ہے۔

فضلہ اٹھانے کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے، ریجن آف پیل کی ویب سائٹ یہاں ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)